

سورة النبأ
مکہ
سورہ نمبر: ۷۸ آیات: ۴۰

۱. یہ لوگ کس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
۲. اس بڑی خبر کے متعلق۔
۳. جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
۴. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔
۵. پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔
۶. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟
۷. اور پہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا)؟
۸. اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔
۹. اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔
۱۰. اور رات کو ہم نے پردہ بنایا۔
۱۱. اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔
۱۲. تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔
۱۳. اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔
۱۴. اور بادلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔
۱۵. تاکہ اس سے اناج اور پودے اگائیں۔
۱۶. اور گھنے باغات بھی (اگائیں)۔
۱۷. بیشک فیصلہ کا دن کا وقت مقرر ہے۔
۱۸. جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔
۱۹. اور آسمان کھول دیا جائے گا پھر اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔
۲۰. اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔
۲۱. بیشک دوزخ گہات میں ہے۔
۲۲. سرکشوں کے لئے ٹھکانے کے طور پر۔
۲۳. اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔
۲۴. نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔
۲۵. سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔
۲۶. مناسب بدلے کے طور پر۔
۲۷. انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی
۲۸. اور بے باقی سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔
۲۹. ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔
۳۰. اب تم (انے کئے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔

الخبر
۳۰
الحرب
۵۹

سُورَةُ النَّبَاِ

۴۰

۷۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں میں

۷۸:۱ بارے میں اس خبر کے جو بڑی ہے ۷۸:۲ وہ جو وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں ۷۸:۳

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾

ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے ۷۸:۴ پھر ہرگز نہیں ۷۸:۵ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش ۷۸:۶

وَالْجِبَالِ اَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

اور پہاڑوں کو میخیں ۷۸:۷ اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں ۷۸:۸ اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ

﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا

۷۸:۹ اور بنایا ہم نے رات کو کپڑا ۷۸:۱۰ اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت ۷۸:۱۱ اور بنائے ہم نے

فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٣﴾ وَاَنْزَلْنَا مِنْ

تمہارے اوپر سات مضبوط ۷۸:۱۲ اور بنایا ہم نے سورج روشن ہونے والا ۷۸:۱۳ اور نازل کیا سے

اَلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّتِ

بادلوں پانی بکثرت ۷۸:۱۴ تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ غلہ اور نباتات ۷۸:۱۵ اور باغات

اَلْاَفَاا ﴿١٦﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

لیفے ہونے ۷۸:۱۶ بیشک دن فیصلے کا ہے مقرر ۷۸:۱۷ جس دن دی جائے گی مہونگ ماز میں صور

فَتَاتُونَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ

تونم آؤ گے فوج در فوج ۷۸:۱۸ اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہوجائے گا دروازے؛ دروازے ۷۸:۱۹ اور چلا دیئے جائیں گے

اَلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِلظَّالِمِیْنَ

پہاڑیں تو ہوں گے وہ سراب ۷۸:۲۰ بیشک جہنم ہے ایک گہات ۷۸:۲۱ سرکشوں کے لئے

مَعَابًا ﴿٢٢﴾ لِّلَّذِیْنَ فِیْهَا اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا

ٹھکانے کے طور پر ۷۸:۲۲ ہمیشہ رینے والے ہیں اس میں مدتوں ۷۸:۲۳ نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز

﴿٢٤﴾ اِلَّا حَمِیْمًا وَّعَسَاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا

۷۸:۲۴ مگر کھولتا پانی اور پھٹی پیپ ۷۸:۲۵ بدلے کے طور پر مناسب ۷۸:۲۶ بیشک وہ وہ تھے

لَا یَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلُّ شَیْءٍ

نہ امید رکھتے تھے حساب کی ۷۸:۲۷ اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلاتا ۷۸:۲۸ اور ہر چیز کو

اَحْصٰیْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوْقُوْا فَلَٰنَ نَزِیْدِكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو لکھ کر ۷۸:۲۹ پس چکھو ہم زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب ۷۸:۳۰

۷۸:۲۹ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو لکھ کر ۷۸:۲۹ پس چکھو ہم زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب ۷۸:۳۰

إِنَّ لِّلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٦١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٦٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٦٣﴾ وَكَأْسًا

بیشک متقی لوگوں کے لئے کامیابی ہے ۷۸:۶۱ باغات بیس اور انگور بیس ۷۸:۶۲ اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر ۷۸:۶۳ اور جام

دِهَاقًا ﴿٦٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ﴿٦٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً

چھلکتے ہوئے ۷۸:۶۴ نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو اور نہ کوئی جھوٹی بات ۷۸:۶۵ بدلہ ہے سے تیرے رب کی طرف (سے) بدلہ

حِسَابًا ﴿٦٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ

حساب سے/کافی ۷۸:۶۶ جو رب ہے آسمانوں کا اور جو زمین کا اور جو ان دونوں کے رحمن نہ مالک ہوں گے

مِنهُ خِطَابًا ﴿٦٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

اس سے بات کرنے کے ۷۸:۶۷ جس دن قیام کریں گے روح اور فرشتے اور صرف نہ کلام کریں گے

إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن

مگر جس کو اجازت دے اس کے رحمن اور وہ کہے درست بات ۷۸:۶۸ یہ ہے دن برحق پس جو کوئی

شَاءَ اتَّخَذِ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا ﴿٦٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ

چاہے بنالے طرف اپنی تہکانہ ۷۸:۶۹ بیشک خبردار کیا ہم نے تم کو عذاب سے قریبی جس دن دیکھے گا

الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٧٠﴾

انسان جو آگے بھیجا اس کے دونوں اور کہے گا کافر اے کاش کہ میں مٹی ہوتا مٹی ۷۸:۷۰

۶۶

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

۷۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾

قسم ہے ان فرشتوں کی غرق ہو کر ۷۹:۱ قسم ہے ان فرشتوں کی جو نکال لینا ۷۹:۲ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں ۷۹:۳

فَالسَّيِّقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنا ۷۹:۴ پھر تدبیر کرنے والوں کی کام کو ۷۹:۵ جس دن کانپنے والی ۷۹:۶

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾

پیچھے لے والی ۷۹:۷ کچھ دل اس دن دھڑکنے والے بیس ۷۹:۸ نکابیں ان کی دبی ہوئی ہوں گی ۷۹:۹

يَقُولُونَ أَيْنَ الْمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَيْنَ ذَانِكُمْ عِظْمًا نَّحْرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا

کہتے ہیں کیا ضرور لوٹائے جائیں گے میں پہلی حالت (میں) ۷۹:۱۰ کیا جب ہوں بڈیاں بوسیدہ ۷۹:۱۱ انہوں نے کہا

تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

یہ تب واپسی ہے گھٹائے کی ۷۹:۱۲ توبیشک وہ ایک ڈانٹ ہے بس ایک ہی ۷۹:۱۳ تواجانک وہ میدان میں ہوں گے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

کیا تیرے پاس ۷۹:۱۵ بات موسیٰ کی ۷۹:۱۵ جب بکارا اس کو رب کے وادی میں مقدس طوی کی ۷۹:۱۶

يُنزِّلُ عَلَيْكَ مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ تَلَوَّحُوهَا نَارًا كَالذَّهَبِ الْمُطَهَّرِ ﴿١٧﴾

۷۹:۱۷

۳۱. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لئے کامیابی ہے۔

۳۲. باغات ہیں اور انگوریں ہیں۔

۳۳. اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر عورتیں ہیں۔

۳۴. چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔

۳۵. اور وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے

اور نہ ہی جھوٹیں باتیں سنیں گے۔

۳۶. (ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان

کے نیک اعمال کا) یہ بدلہ ملے گا جو کافی

انعام ہوگا۔

۳۷. (اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ)

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے

درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش

کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت

کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

۳۸. جس دن روح اور فرشتے صاف باندھ

کھڑے ہونگے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا

مگر جسے رحمن اجازت دے دے اور وہ

ٹھیک بات زبان سے نکالے۔

۳۹. یہ دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف

(نیک اعمال کر کے) راستہ بنالے۔

۴۰. ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب

سے ڈرا دیا اور (چوکنہ کر دیا) ہے جس دن

انسان اپنے ہاتھوں کی کھائی کو دیکھ لے گا

اور کافر کہے گا کہ کاش! میں مٹی ہو جاتا۔

سورة النَّازِعَاتِ

مکہ

سورة نمبر: ۷۹ آیات: ۴۶

۱. ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔

۲. بند کھول کر جھڑا دینے والوں کی قسم۔

۳. اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔

۴. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔

۵. پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔

۶. جس دن کانپنے والی کانپے گی۔

۷. اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی (پیچھے

پیچھے) آئے گی۔

۸. (بہت سے) دل اس دن دھڑکتے ہونگے۔

۹. جس کی نگاہیں نیچی ہونگی۔

۱۰. کہتے ہیں کہ کیا پہلی کی سی حالت

کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

۱۱. کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ بڈیاں

ہو جائیں گے۔

۱۲. کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان

دہ ہے۔

۱۳. (معلوم ہونا چاہیئے) وہ تو صرف ایک

(خوفناک) ڈانٹ ہے۔

۱۴. کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک

دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔

۱۵. کیا موسیٰ (علیہ السلام) کی خبر تمہیں

پہنچی ہے؟

۱۶. جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک وادی

طویٰ میں پکارا۔

۱۷. یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔
۱۸. اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے۔
۱۹. اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو (اس سے) ڈرنے لگے۔
۲۰. پس اسے بڑی نشانی دکھائی۔
۲۱. تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔
۲۲. پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔
۲۳. پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔
۲۴. تم سب کا رب میں ہی ہوں۔
۲۵. تو (سب سے بلند و بالا) اللہ نے اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔
۲۶. بیشک اس میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے۔
۲۷. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا۔
۲۸. اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔
۲۹. اسکی رات کو تاریک بنایا اسکے دن کو روشن بنایا۔
۳۰. اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھا دیا۔
۳۱. اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔
۳۲. اور پہاڑوں کو (مضبوط) گاڑھ دیا۔
۳۳. یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے ہیں۔
۳۴. پس جب وہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی۔
۳۵. جس دن کے انسان اپنے کئے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔
۳۶. اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔
۳۷. تو جس (شخص) نے سرکشی کی (ہوگی)۔
۳۸. اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔
۳۹. (اسکا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔
۴۰. ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔
۴۱. تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔
۴۲. لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔
۴۳. آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟
۴۴. اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔
۴۵. آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔
۴۶. جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رہے ہیں۔

سورة عبس

مکہ

سورہ نمبر: ۸۰ آیات: ۴۲

أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرْكِبَ ﴿١٨﴾ وَاهْدِيكَ

جاؤ طرف فرعون کے بیشک وہ سرکش ہو گیا ہے ۷۹:۱۷ پس کہو کیا تیرے طرف تو بارگزی اور میں رہنمائی کروں تیری

إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرِنَهُ آيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ

طرف تیرے تاکہ تو ڈرے ۷۹:۱۹ پس دکھائی نشانی بہت بڑی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ۷۹:۲۱ پھر

أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَخَشِرْنَا دِئِيقًا ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ

اس نے پیٹھ دوزخے ہوئے ۷۹:۲۲ پھر اس نے پھریا ۷۹:۲۳ میں تمہارا رب سب سے اعلیٰ ۷۹:۲۴ تو بگڑ لیا اس کو پھیری

اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾

اللہ نے عذاب میں (عذاب میں) آخرت کے اور دنیا کے ۷۹:۲۵ یقیناً میں اس (میں) البتہ عبرت ہے واسطے جو ڈرتا ہو ۷۹:۲۶

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَاهَا فَمَسَّوْنَهَا ﴿٢٨﴾

کیا تم زیادہ سخت تخلیق میں یا آسمان ۷۹:۲۷ اس نے بنایا اتھایا اس کی بلندی کو پھر درست کر دیا اس کو ۷۹:۲۸

وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾

اور ڈھانک دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو ۷۹:۲۹ اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھا دیا اس کو ۷۹:۳۰

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَائِلًا وَمَرَعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لِّكُم

اس نے نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ ۷۹:۳۱ اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا ان کو ۷۹:۳۲ فائدے کے طور پر تمہارے واسطے

وَلَا تَعْمَلُكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ

اور تمہارے مویشیوں کے لئے ۷۹:۳۳ پھر جب آجائے گی آفت بڑی اس دن یاد کرے گا انسان ۷۹:۳۴

مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَعَآثَرَ

جو اس نے اس سے اور کھول دی جائے گی جہنم واسطے جو دیکھتا ہو ۷۹:۳۶ توریا وہ سرکشی کی جس نے ۷۹:۳۷ اور ترجیح دی جو کوشش کی

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

زندگی کو دنیا کی ۷۹:۳۸ تو بیشک جہنم وہی ٹھکانہ ہوگی ۷۹:۳۹ اور یا وہ جو ڈرا

مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

کہنے کے لئے رب اور روکا اس نے نفس کو سے خواہشات (سے) ۷۹:۴۰ تو یقیناً جنت وہی ٹھکانہ ہوگی

﴿٤٢﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٣﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ

۷۹:۴۱ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے بارے قیامت کے کب ہے تمہارا اس کا ۷۹:۴۲ کس (فکر) میں ہیں تو سے

ذِكْرِنَهَا ﴿٤٤﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٥﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخْشَاهَا

اس کے ذکر سے ۷۹:۴۳ طرف تیرے رب کی اس کی انتہا ہے بیشک ۷۹:۴۴ تو خبردار کرنے اس کو جو ڈرتا ہو اس سے

﴿٤٥﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوُّهَا لِمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

۷۹:۴۵ گویا کہ وہ جس دن اس کو (تو کہیں نہیں وہ نہیں مگر شام کا وقت یا اس کی صبح ۷۹:۴۶

وہ دیکھ لیں گے اس کو (تو کہیں نہیں وہ نہیں مگر شام کا وقت یا اس کی صبح ۷۹:۴۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهِ وَيُزَكِّي ۳

ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ ۱۔۱ کہ آیا اس کے اندھا ۲۔۲ اور کیا بتائے تجھ کو شاید کہ وہ سدر جائے ۳۔۳

أَوِيدَّرْكَرَفْتَفَعَهُ الذِّكْرَى ۴ أَمَّا مَنْ أَسْتَعْنَى ۵ فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدَّى ۶

یا نصیحت تو فائدہ دے اس کو نصیحت ۴۔۴ یا جو بے پروائی کرتا ہے ۵۔۵ تو اب اس کی طرف مائل ہوتے ہیں ۶۔۶

وَمَا عَلَيْكَ الْأَيُّزَى ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۸ وَهُوَ يَحْشَى ۹

۸۔۱ اور آپ پر ذمہ کہ نہ وہ باکیرگی ۷۔۷ اور یا جو آیا اب کے پاس دوڑتا ہوا ۸۔۸ اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا ۹۔۹

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۱۰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۱۲ فِي صُحُفٍ

تو آپ اس سے بے رخی برتنے ہیں ۱۰۔۱۰ برکت بیشک وہ ایک نصیحت ۱۱۔۱۱ توجو کوئی یاد کیے ۱۲۔۱۲ میں صحیفوں سے (ہے)۔

مُكْرَمَةٍ ۱۳ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶

جو عزت دینے گئے ہیں ۱۳۔۱۳ بلندبسی پاکیزہ ہیں ۱۴۔۱۴ ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے ۱۵۔۱۵ معزز ہیں چونکہ ہیں ۱۶۔۱۶

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۱۷ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸ مِنْ نُّطْفَةٍ

مارا جائے انسان کیا سخت منکر ہے ۱۷۔۱۷ سے کس چیز ۱۸۔۱۸ سے (ایک نطفے سے)

خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ ۱۹ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۲۰ ثُمَّ أَمَاتَهُ وَأَقْبَرَهُ ۲۱ ثُمَّ إِذَا

اس نے پیدا کیا اس کو بھر تقدیر مقرر کی اس کی ۱۹۔۱۹ بھر راستہ ۲۰۔۲۰ اس نے آسان کیا اس کا ۲۱۔۲۱ بھر موت دی اس کو بھر قبر دی اس کو ۲۱۔۲۱

شَاءَ أَنْشُرَهُ ۲۲ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ۲۳ فَلَيْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۲۴

وہ چاہے اٹھا کھڑا کیے ۲۲۔۲۲ ہرگز نہیں نہیں ہوگا جو اس نے حکم ۲۳۔۲۳ کی دیکھے اس کے دیکھنے کی طرف اپنے کھانے کی

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۲۶ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

۲۴۔۲۴ بیشک ڈالا ہم نے پانی ڈالنا ۲۵۔۲۵ بھر پہاڑی ہم نے زمین پہاڑنا ۲۶۔۲۶ بھرا گیا ہم نے اس میں

حَبًّا ۲۷ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ۲۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۲۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۰ وَفِكَهَةً

غلہ ۲۷۔۲۷ اور انگور اور ترکاری ۲۸۔۲۸ اور زیتون اور کھجور ۲۹۔۲۹ اور باغات گھنے ۳۰۔۳۰ اور بہل

وَأَبًّا ۳۱ مَتَعَالِكُمْ وَلَا نَعْمَكُمُ ۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۳۳ يَوْمَ يَفِرُّ

اور چارہ ۳۱۔۳۱ چیزیں ہیں تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لئے ۳۲۔۳۲ توجہ آجائے گی کان بھانڑنے والی ۳۳۔۳۳ اس دن دوڑے گا

الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۳۴ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۳۵ وَصَحْبَتِهِ وَوَيْبِهِ ۳۶ لِكُلِّ

انسان سے اپنے بھائی ۳۴۔۳۴ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ۳۵۔۳۵ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے ۳۶۔۳۶ واسطے ہر

أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۳۷ وَوَجُوهُهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۳۸

شخص کے ان میں سے اس دن (ایک خاص) جو اس کو لئے ۳۷۔۳۷ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۳۹ وَوَجُوهُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۴۰

۳۸۔۳۸ ہنستے ہوں گے شادمان ہوں گے ۳۹۔۳۹ کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا ۴۰۔۴۰

- ۱۔ وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا۔
- ۲۔ (صرف اس لئے) کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔
- ۳۔ تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا۔
- ۴۔ یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔
- ۵۔ جو بے پروائی کرتا ہے۔
- ۶۔ اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا۔
- ۷۔ حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔
- ۸۔ جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔
- ۹۔ اور وہ ڈر (بھی) رہا ہے۔
- ۱۰۔ تو اس سے بے رخی برتنے ہے۔
- ۱۱۔ ہرگز نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔
- ۱۲۔ جو چاہے اس سے نصیحت لے۔
- ۱۳۔ (یہ تو) پر عظمت آسمانی کتب میں سے (ہے)۔
- ۱۴۔ جو بلند بالا اور پاک صاف ہے۔
- ۱۵۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔
- ۱۶۔ جو بزرگ اور پاکباز ہیں۔
- ۱۷۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔
- ۱۸۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔
- ۱۹۔ (اسے) ایک نطفہ سے، پھر اندازہ پر رکھا اس کو۔
- ۲۰۔ پر اس کے لئے راستہ آسان کیا۔
- ۲۱۔ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔
- ۲۲۔ پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔
- ۲۳۔ ہرگز نہیں، اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔
- ۲۴۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔
- ۲۵۔ کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔
- ۲۶۔ پھر پہاڑ زمین کو اچھی طرح۔
- ۲۷۔ پھر اس میں اناج اگائے۔
- ۲۸۔ اور انگور اور ترکاری۔
- ۲۹۔ اور زیتون اور کھجور۔
- ۳۰۔ اور گنجان باغات۔
- ۳۱۔ اور میوہ اور (گھاس) چارہ (بھی) اگایا۔
- ۳۲۔ تمہارے استعمال و فائدہ کے لئے اور تمہارے چوپایوں کے لئے۔
- ۳۳۔ پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آ جائے گی۔
- ۳۴۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔
- ۳۵۔ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔
- ۳۶۔ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔
- ۳۷۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر (دامن گیر) ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی۔
- ۳۸۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔
- ۳۹۔ (جو) ہنستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے۔
- ۴۰۔ اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔

۴۱. جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔
۴۲. وہ یہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے۔

سورة التکوین

مکہ
سورہ نمبر: ۸۱ آیات: ۲۹

۱. جب سورج لیٹ میں آ جائے گا۔
۲. اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔
۳. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔
۴. اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔
۵. اور جب وحشی جانور اکٹھے کئے جائیں گے۔
۶. اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے
۷. اور جب جانیں (جسموں سے) ملا دی جائیں گی۔
۸. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔
۹. کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی
۱۰. جب نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے۔
۱۱. اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔
۱۲. اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔
۱۳. اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔
۱۴. تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔
۱۵. میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔
۱۶. پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔
۱۷. اور رات کی جب جانے لگے۔
۱۸. اور صبح کی جب چمکنے لگے۔
۱۹. یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔
۲۰. جو قوت والا ہے عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔
۲۱. جس کی (آسمانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔
۲۲. اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔
۲۳. اس نے اس (فرشتے) کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔
۲۴. اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے کے لئے بخیل بھی نہیں۔
۲۵. اور یہ قرآن شیطاں مردود کا کلام نہیں۔
۲۶. پھر تم کہاں جا رہے ہو۔
۲۷. یہ تمام جہان والوں کے لئے نصیحت نامہ ہے۔
۲۸. (بالخصوص) اس کے لئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔
۲۹. اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔

تَرَهْقَاهَا قَتْرَةٌ ﴿۴۱﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿۴۲﴾

دھانکے گی ان کو سیاہی ۸۱:۴۱ یہی لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں جو فجر میں ۸۱:۴۲

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

۲۹

۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿۱﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿۲﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ

جب سورج لیٹ جائے گا ۸۱:۱ اور جب تارے گدلیے ہو جائیں گے ۸۱:۲ اور جب پہاڑیں

سُيِّرَتْ ﴿۳﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿۴﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

چلا دیئے جائیں گے ۸۱:۳ اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں تنہا چھوڑ دی جائیں گی ۸۱:۴ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیئے جائیں گے

﴿۵﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿۶﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿۷﴾ وَإِذَا

۸۱:۵ اور جب سمندر بھڑکائیے جائیں گے ۸۱:۶ اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گے ۸۱:۷ اور جب

الْمَوءُ وَوَدَةٌ سُيِّلَتْ ﴿۸﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿۹﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

زندہ گاڑی ہوئی لڑکی بوجھی جانے کی ۸۱:۸ کس گناہ میں ماری گئی ۸۱:۹ اور جب اعمال نامے پھیلادیئے جائیں گے

﴿۱۰﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿۱۲﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ

۸۱:۱۰ اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی ۸۱:۱۱ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی ۸۱:۱۲ اور جب جنت

أُزْلِفَتْ ﴿۱۳﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿۱۴﴾ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ﴿۱۵﴾

قریب لے آئی جائے گی ۸۱:۱۳ جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا ۸۱:۱۴ پس نہیں میں قسم بیچھے ہٹنے والے کی ۸۱:۱۵

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿۱۶﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿۱۸﴾

سیدھے چلنے والے (ستاروں کی) ۸۱:۱۶ اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے ۸۱:۱۷ اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے ۸۱:۱۸

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۱۹﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۰﴾ مُطَاعٍ

بیشک وہ البتہ قول ہے رسول کا جو معزز ہیں ۸۱:۱۹ والا ہے قوت کا نزدیک والے کے عرش والے کے (بلند مرتبہ والا) ۸۱:۲۰ کہا مانا گیا

ثَمَّ آمِينٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

اسی جگہ امانت دار ہے اور نہیں ساتھ تمہارا کوئی مجنون ۸۱:۲۲ اور البتہ اور البتہ اس نے دیکھا آسمان کے کنارے پر کھلے

﴿۲۳﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۲۴﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيرٍ ﴿۲۵﴾

۸۱:۲۳ اور نہیں وہ پر غیب ہرگز بخیل ہے اور نہیں وہ قول شیطاں کا جو مردود ہے ۸۱:۲۵

فَإِنَّ تَذٰهَبُونَ ﴿۲۶﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۷﴾ لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ

پھر کدھر تم جا رہے ہو ۸۱:۲۶ نہیں وہ مگر نصیحت ایک جہان والوں کے لئے ۸۱:۲۷ واسطے جو چاہے تم میں سے کہ ہے

يَسْتَقِيْرَ ﴿۲۸﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۹﴾

راہ راست پر چلے ۸۱:۲۸ اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رہے سارے جہان والوں کا ۸۱:۲۹

سورة الانفطار

مکہ
سورہ نمبر: ۸۲ آیات: ۱۹

۱. جب آسمان پھٹ جائے گا۔
۲. جب ستارے جھڑ جائیں گے۔
۳. سمندر بہہ نکلیں گے

۴. اور جب قبریں (شق کر کے) اکھاڑ دی جائیں گی۔

۵. (اس وقت) ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوٹے ہوئے (یعنی اگلے پیچھے اعمال) کو معلوم کر لے گا۔

۶. اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟

۷. جس (رب نے) تجھے پیدا کیا۔ پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر درست اور برابر بنایا

۸. جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

۹. ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔

۱۰. یقیناً تم پر نگہبان عزت والے۔

۱۱. لکھنے والے مقرر ہیں۔

۱۲. جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔

۱۳. یقیناً نیک لوگ (جنت کے عیش آرام اور نعمتوں میں ہونگے۔

۱۴. اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہونگے۔

۱۵. بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔

۱۶. وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔

۱۷. تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔

۱۸. پھر میں (کہتا ہوں) تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔

۱۹. (وہ ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور (تمام تر) احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔

سورة المطففين

مکہ
سورہ نمبر: ۸۳ آیات: ۳۶

۱. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔

۲. کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔

۳. جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔

۴. کیا انہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا خیال نہیں۔

۱۹

سورة الانفطار

۸۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱. إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكُوٰكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ

جب آسمان پھٹ جائے گا ۸۲:۱ اور جب ستارے بکھریں گے ۸۲:۲ اور جب سمندر

فُجِرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

بہاڑ دینے جائیں گے ۸۲:۳ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی ۸۲:۴ جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا

وَأَخَّرَتْ ۝ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي

اور جو پیچھے رکھا ۸۲:۵ اے انسان کس دھوکے میں تیرے رب کریم کے بارے میں ۸۲:۶ وہ جس نے

خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

پیدا کیا تجھ کو پھر درست کیا تجھ کو پھر برابر کیا تجھ کو ۸۲:۷ میں جس شکل میں چاہا جوڑ دیا تجھ کو ۸۲:۸

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا

ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو ۸۲:۹ اور بیشک تم پر اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں بزرگ

كَتِيبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ

لکھنے والے ہیں ۸۲:۱۱ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ۸۲:۱۲ بیشک نیک لوگ اللہ میں نعمتوں میں ہوں گے اور بیشک

الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

بدکار لوگ اللہ میں جہنم میں ہوں گے ۸۲:۱۴ وہ داخل ہوں گے اس کے آگے اور نہیں وہ اس سے کچھ غائب ہونے والے

۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

۸۲:۱۶ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا دن بدلے کا ۸۲:۱۷ پھر کیا چیز بتائے تجھ کو کیا دن بدلے کا

۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۝

۸۲:۱۸ جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لئے کچھ بھی اور تمام معاملہ ہوگا اس دن اللہ ہی کے لئے ۸۲:۱۹

۳۶

سورة المطففين

۸۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

۱. وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

بلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے ۸۳:۱ وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں سے لوگوں وہ پورا پورا لیتے ہیں ۸۳:۲

۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَنَوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

اور جب ناپ کر ان کو یا وزن کر کے دیتے ہیں ۸۳:۳ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مبعوث کرنے والے ہیں ۸۳:۴

۵. اس عظیم دن کے لئے۔
 ۶. جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
 ۷. یقیناً بدکاروں کا اعمالنامہ سچین میں ہے۔
 ۸. تجھے کیا معلوم سچین کیا ہے۔
 ۹. (یہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔
 ۱۰. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔
 ۱۱. جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔
 ۱۲. اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا (اور) گناہگار ہوتا ہے۔
 ۱۳. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ آگلوں کے افسانے ہیں۔
 ۱۴. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔
 ۱۵. ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔
 ۱۶. پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔
 ۱۷. پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔
 ۱۸. یقیناً یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔
 ۱۹. تجھے کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟
 ۲۰. (وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔
 ۲۱. مقرب (فرشتے) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
 ۲۲. یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعمتوں میں ہونگے۔
 ۲۳. مسہریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔
 ۲۴. تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لے گا۔
 ۲۵. یہ لوگ سر بہمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔
 ۲۶. جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیئے۔
 ۲۷. اور اس کی آمیزش تسنیم ہوگی۔
 ۲۸. وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیئیں گے۔
 ۲۹. گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑیا کرتے تھے۔
 ۳۰. ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔
 ۳۱. اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔
 ۳۲. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ (بے راہ) ہیں۔
 ۳۳. یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔

لَيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

دن کو بڑے ۸۳:۵ جس دن کھڑے لوگ رب کے لئے رب العالمین کے لئے ۸۳:۶ ہرگز نہیں بيشک کتاب

الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

بدکاروں کی البتہ میں سچین میں ہیں ۸۳:۷ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کیا سچین ۸۳:۸ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ۸۳:۹

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْتُوبُ

بلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ۸۳:۱۰ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں دن کو بدلے کے (دن کو) اور نہیں جھٹلاتا

بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

اس کو مگر ہر بڑھنے والا حد سے گناہ گار ۸۳:۱۲ جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ

۸۳:۱۲ ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ بر ان کے دلوں پر (بڑ) چوہ ہیں وہ کمائی کرتے ۸۳:۱۴ ہرگز نہیں بيشک وہ سے اپنے رب سے

يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا

اس دن البتہ حجاب میں رکھے جائے والے ہیں ۸۳:۱۵ پھر بيشک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں ۸۳:۱۶ پھر کہا جائے گا یہ ہے

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ ﴿١٨﴾

وہ چیز تھے تم کو جس تم جھٹلاتا کرتے ۸۳:۱۷ ہرگز نہیں بيشک کتاب نیک لوگوں کی البتہ میں علیین میں ہوگی ۸۳:۱۸

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے علیین ۸۳:۱۹ ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے ۸۳:۲۱

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي

بيشک نیک لوگ البتہ میں نعمتوں میں ہوں گے ۸۳:۲۲ بر مسندوں دیکھ رہے ہوں گے ۸۳:۲۳ تم پہچان لوگے میں

وَجُوهَهُمْ فَضْرَةٌ نَّعِيمٍ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتْمُهُ

ان کے چہروں میں رونق نعمت کی ۸۳:۲۴ پلائے جائیں گے سے خالص شراب مہربند ۸۳:۲۵ اس کی مہر

مِسْكٌَ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِّسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِمَّا جُهِ وَمِنْ

مشک ہوگی اور میں اس میں پس چاہیے کہ ایک دوسرے بازی لے جانے والے ۸۳:۲۶ اور آمیزش اس کی سے

تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا

تسنیم سے ہوگی (تسنیم کیا ہے) ۸۳:۲۷ ایک چشمہ پینیں گے اس سے مقرب لوگ ۸۳:۲۸ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے

مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَصْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

سے ان لوگوں جو ایمان لائے ہنستے ۸۳:۲۹ اور جب گزرتے ان کے پاس سے آنکھیں مارتے تھے ۸۳:۳۰

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا

اور جب بلت کے جاتے طرف اپنے گھر والوں کے بلتے تھے باتیں بتاتے ۸۳:۳۱ اور جب وہ دیکھتے ان کو کہتے

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾

بيشک یہ لوگ البتہ بھکے ہوئے ہیں ۸۳:۳۲ حالانکہ وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر ۸۳:۳۳

۳۴. پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔
 ۳۵. تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہونگے۔
 ۳۶. کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا۔

سورة الانشقاق

مکہ

سورہ نمبر: ۸۴ آیات: ۲۵

۱. جب آسمان پھٹ جائے گا۔
 ۲. اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اسی کے لائق وہ ہے۔
 ۳. اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔
 ۴. اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔
 ۵. اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسی لائق وہ ہے۔
 ۶. اے انسان! تو نے اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔
 ۷. تو (اسوقت) جس شخص کے دابنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔
 ۸. اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔
 ۹. اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔
 ۱۰. ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔
 ۱۱. تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔
 ۱۲. اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔
 ۱۳. یہ شخص اپنے متعلقین میں (دنیا میں) خوش تھا۔
 ۱۴. اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔
 ۱۵. کیوں نہیں حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔
 ۱۶. میں قسم کھاتا ہوں شفق کی
 ۱۷. اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی۔
 ۱۸. اور چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔
 ۱۹. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔
 ۲۰. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
 ۲۱. اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
 ۲۲. بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔
 ۲۳. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔
 ۲۴. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٢٤﴾ عَلَىٰ

پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے سے کافروں ہنس رہے ہوں گے ۸۳:۲۴ بر

الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٥﴾ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾

مستندوں (پر) دیکھ رہے ہوں گے ۸۳:۲۵ کیا بدلہ بالبا کافروں نے جو تھے وہ کیا کرتے ۸۳:۲۶

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

۲۵

۸۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ اُنْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

جب آسمان پھٹ جائے گا ۸۴:۱ اور کان لگائے گی اپنے رب سے ۸۴:۲ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ۸۴:۳

وَالْقَتَّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا

۸۴:۴ اور ڈال دی جو اس میں اور خالی ہو جائے گی ۸۴:۴ اور کان لگائے گی اپنے رب سے ۸۴:۵ اور وہ لے لے

الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمَلَقْتَهُ ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ

انسان بیشک تو محنت کرتے والا ہے ۸۴:۶ اور کان لگائے گی اپنے رب سے ۸۴:۶ اور وہ لے لے

كِتَابَهُ وَبِیْمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا ﴿٨﴾ وَیَنْقَلِبُ

کتاب اپنی اپنے دائیں ہاتھ میں ۸۴:۷ تو عنقریب حساب کیا جائے گا وہ حساب آسان ۸۴:۸ اور وہ لوٹے گا

اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاٰ ظَهْرَهُ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ

طرف اپنے گھروں کی خوش ۸۴:۹ اور ریا جو دیا گیا اپنی کتاب پیچھے اپنی پیٹھ کے ۸۴:۱۰ تو عنقریب

یَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَیَصْلٰی سَعِیْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ وَاِنْ كَانَ فِیْ اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾

بلانے کا بلاکت کو ۸۴:۱۱ اور داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں ۸۴:۱۲ بیشک تھا میں اپنے گھروں (میں) مسرور ۸۴:۱۳

اِنَّهٗ وَاِنْ لَّنْ یَّحْجُرَ ﴿١٤﴾ بَلٰی اِنَّ رَبَّهٗ وَاِنْ كَانَ بِهٖ بَصِیْرًا ﴿١٥﴾ فَلَا اَقْسِمُ

بیشک وہ سمجھتا تھا کہ نہیں وہ لوٹے گا ۸۴:۱۴ کیوں بیشک اس کا تھا اس کو دیکھنے والا ۸۴:۱۵ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں

بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَّقَ ﴿١٨﴾

شفق کی ۸۴:۱۶ اور رات کی اور اس کی جو اکٹھا کرے ۸۴:۱۷ اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے ۸۴:۱۸

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِیْ

البتہ تم ضرور ایک حالت پر سے دوسری حالت (سے) ۸۴:۱۹ پس کیا ہے ان کو نہیں وہ ایمان لائے ۸۴:۲۰ اور جب بڑھا جاتا ہے

عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَكْذِبُوْنَ

ان پر قرآن نہیں وہ سجدہ کرتے ۸۴:۲۱ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں

﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا یُوعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿٢٤﴾

۸۴:۲۲ اور اللہ جانتا ہے بارے میں جو وہ سمیت رہے ہیں ۸۴:۲۳ عذاب کی جو دردناک ہے ۸۴:۲۴

۲۵. ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بیشمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔

سورة البروج

مکہ

سورہ نمبر: ۸۵ آیات: ۲۲

۱. برجوں والے آسمان کی قسم۔
۲. وعدہ کئے ہوئے دن کی قسم!۔
۳. حاضر ہونے والے اور حاضر کئے گئے کی قسم۔

۴. (کہ) خندقوں والے ہلاک کئے گئے۔
۵. وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔
۶. جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔
۷. اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔
۸. یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کسی اور گناہ) کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، سوئے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔

۹. جس کے لئے آسمان و زمین کا ملک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے ہر چیز۔
۱۰. بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

۱۱. بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لئے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
۱۲. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
۱۳. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔

۱۴. وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔
۱۵. عرش کا مالک عظمت والا ہے۔
۱۶. جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔
۱۷. تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے؟

۱۸. (یعنی) فرعون اور ثمود کی۔
۱۹. (کچھ نہیں) بلکہ کافر جھٹلانے میں بڑے ہوئے ہیں۔
۲۰. اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

۲۱. بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔

۲۲. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۲۵﴾

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے ان کے لئے اجر ہے نہ ختم ہونے والا ۸۴:۲۵

سُورَةُ الْبُرُوجِ ۸۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿۱﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿۲﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

قسم ہے آسمان کی والا ہے جو برجوں (والا ہے) ۸۵:۱ اور قسم ہے اور قسم ہے وعدہ کئے گئے ۸۵:۲ اور حاضر ہونے والی اور حاضر کیے ہوئے کی

﴿۳﴾ قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿۴﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿۵﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا

۸۵:۳ ماریے گئے والے خندقوں (والے) ۸۵:۴ جو آگ تھی والی ایندھن (والی) ۸۵:۵ جب وہ اس پر

فُعُودٌ ﴿۶﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿۷﴾ وَمَا نَقَمُوا

بینھے ہوئے تھے ۸۵:۶ اور وہ اوپر اس کے وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے ۸۵:۷ اور نہ وہ بدلائے

مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۸﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریف والا ہے ۸۵:۸ وہ ذات اسی بادشاہت کے لئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ

آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ پر ہر چیز (پر) کوہ ہے ۸۵:۹ بیشک وہ لوگ

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ يُتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ

جنہوں نے آزمائشیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو پھر نہیں انہوں نے توبہ کی تو ان کے لئے عذاب ہے جہنم کا اور ان کے لئے عذاب ذالا

عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

عذاب ہے جلنے کا ۸۵:۱۰ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے ان کے لئے

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿۱۱﴾ إِنَّ بَطْشَ

باغات ہیں بہتی ہیں سے ان کے نیچے نہیں یہ کامیابی ہے بڑی ۸۵:۱۱ بیشک پکڑ

رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿۱۲﴾ إِنَّهُ هُوَ بَدِيٌّ وَيَعِيدُ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿۱۴﴾

تیرے رب کی البتہ بہت شدید ہے ۸۵:۱۲ بیشک وہ وہی پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے اور وہ بخشش فرماتے والا ۸۵:۱۳ اور وہ محبت کرنے والا ہے ۸۵:۱۴

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿۱۵﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۱۶﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ

والا ہے (ہے) عرش (والا) صاحب فضل و کرم ہے ۸۵:۱۵ کر گزرنے والا ہے اس کو وہ چاہتا ہے کیا ۸۵:۱۶ آیا تیرے خبر لشکروں کی

﴿۱۷﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿۱۸﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿۱۹﴾ وَاللَّهُ مِنْ

۸۵:۱۷ فرعون اور ثمود کی ۸۵:۱۸ بلکہ وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے میں جھٹلانے میں ہیں ۸۵:۱۹ اور اللہ سے

وَرَأَيْهِمْ مَّحِيطٌ ﴿۲۰﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿۲۱﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿۲۲﴾

ان کے آگے گھیرے ہوئے ہے ۸۵:۲۰ بلکہ وہ قرآن مجید ہے ۸۵:۲۱ میں لوح محفوظ ۸۵:۲۲

سورة الطارق

مکہ
سورہ نمبر: ۸۶ آیات: ۱۷

۱. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔
۲. تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟
۳. وہ روشن ستارہ ہے۔
۴. کوئی ایسا نہیں جس پر نہنگان فرشتہ نہ ہو۔
۵. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔
۶. وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔
۷. جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔
۸. بیشک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔
۹. جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔
۱۰. تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔
۱۱. بارش والے آسمان کی قسم۔
۱۲. اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔
۱۳. بیشک یہ (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔
۱۴. یہ ہنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔
۱۵. البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔
۱۶. اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔
۱۷. تو کافروں کو مہلت دے۔ انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے۔

سورة الاعلیٰ

مکہ
سورہ نمبر: ۸۷ آیات: ۱۹

۱. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔
۲. جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔
۳. اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔
۴. اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا۔
۵. پھر اس نے اس کو (سکھا کر) سیاہ کوڑا کر دیا۔
۶. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بولے گا۔
۷. مگر جو کچھ اللہ چاہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔
۸. ہم آپ کیلئے آسانی پیدا کر دیں گے۔
۹. تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔
۱۰. ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔

۱۷

سورة الطَّارِقِ

۸۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النُّجُومُ الثَّاقِبُ

قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ رات کو آنے والا ۸۶:۱ اور کیا چیز ۸۶:۲ تارہ چمکتا ہوا

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

۸۶:۳ نہیں کوئی شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے ۸۶:۴ پس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ۸۶:۵

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ وَعَلَى

پیدا کیا ہے پانی سے جو اچھلتے والا ہے ۸۶:۶ نکلتا ہے سے درمیان سے پیٹھ کی ہڈی کے اور سینے کی ہڈیوں سے ۸۶:۷ بیشک وہ برکتا ہے

رَجْعِهِ لِقَادِرٌ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

اس کو لوٹانا البتہ قادر ہے ۸۶:۸ جس دن پتلا ہوگی پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ۸۶:۹ تو نہیں اس کے لئے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ

۸۶:۱۰ قسم ہے آسمان کی والے کی بلٹے والے کی اور زمین کی والی ہے جو پھٹنے والی ہے ۸۶:۱۱ بیشک وہ

لِقَوْلٍ فَفَصَلِّ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

۸۶:۱۲ البتہ ایک فیصلہ کن اور نہیں وہ کوئی ہنسی مذاق ۸۶:۱۳ بیشک وہ جال چل رہے ہیں ایک چال ۸۶:۱۴ بات ہے

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ۝

اور میں تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر ۸۶:۱۵ پس ڈھیل دے دو کافروں کو ڈھیل دو ان کو مہلت تھوڑی سی ۸۶:۱۶

۱۹

سورة الاعلیٰ

۸۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝

تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے ۸۷:۱ وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا ۸۷:۲ اور وہ ذات جس نے انداز کیا دکھائی پھر راہ

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ عُتَّاءً أِخْوَى ۝ سَنُقَرِّبُكَ

۸۷:۳ اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ ۸۷:۴ پھر بنادیا اس کو خشک گھاس سیاہ ۸۷:۵ عنقریب ہم پڑھو دین کے تجھ کو

فَلَا تَنْسَى ۝ إِنْ أَمَّا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝ وَنُيَسِّرُكَ

تو نہ تم بھولو گے ۸۷:۶ مگر جو چاہا اللہ نے بیشک وہ ہے ظاہر کو اور جو پوشیدہ ہے ۸۷:۷ اور ہم آسانی کر دیں گے ہمیں تجھ کو

لِلْيُسْرَى ۝ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝ سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى ۝

۸۷:۸ واسطے آسانی کے پس نصیحت اگر فائدہ دے نصیحت کرنا ۸۷:۹ عنقریب نصیحت دے گا وہ جو ڈرتا ہوگا ۸۷:۱۰

۱۱. (ہاں) بد بخت اس سے گریز کرے گا۔
 ۱۲. جو بڑی آگ میں جائے گا۔
 ۱۳. جہاں پھر نہ مرے گا نہ جئے گا (بلکہ حالت نزع میں پڑا رہے گا۔
 ۱۴. بیشک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔
 ۱۵. اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔
 ۱۶. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
 ۱۷. اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔
 ۱۸. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔
 ۱۹. (یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔

سورة الغاشية

مکہ
سورہ نمبر: ۸۸ آیات: ۲۶

۱. کیا تجھے ڈھانپ لینے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے۔
 ۲. اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہونگے۔
 ۳. (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہونگے۔
 ۴. اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔
 ۵. نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔
 ۶. ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔
 ۷. جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔
 ۸. بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور (آسودہ) حال ہونگے۔
 ۹. اپنی کوشش پر خوش ہونگے۔
 ۱۰. بلند و بالا جنتوں میں ہونگے۔
 ۱۱. جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔
 ۱۲. جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔
 ۱۳. (اور) اس میں اونچے اونچے تخت ہونگے۔
 ۱۴. اور پینے کے برتن رکھے ہوئے (ہونگے)۔
 ۱۵. اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہونگے۔
 ۱۶. اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہونگی۔
 ۱۷. کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کئے۔
 ۱۸. اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا۔
 ۱۹. اور پہاڑوں کی طرف کس طرح گاڑھ دیئے گئے ہیں۔
 ۲۰. اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔
 ۲۱. پس آپ نصیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔
 ۲۲. آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ

اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت ۸۷:۱۱ وہ جو داخل ہوگا آگ میں بڑی ۸۷:۱۲ پھر نہ وہ مرے گا

فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

اس میں اور نہ زندہ ہوگا ۸۷:۱۳ یقیناً فلاح پاگیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی ۸۷:۱۴ اور ذکر کیا نام اپنے رب کا پھر اس نے نماز پڑھی ۸۷:۱۵

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّ

بلکہ تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو دنیا کی ۸۷:۱۶ اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ۸۷:۱۷ یقیناً

هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

یہ البتہ میں صحیفوں میں ہے پہلے ۸۷:۱۸ صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے ۸۷:۱۹

۲۶

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

۸۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجُوهٌُ يُومَدُ خَشَعَةً ۝ عَامِلَةٌ

کیا آئی ہے تجھے خبر ڈھانپ لینے والی کی ۸۸:۱ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں ۸۸:۲ عمل کرنے والے ہیں

نَاصِبَةٌ ۝ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَةٍ ۝ لَيْسَ

تھکے ہوئے ہیں ۸۸:۳ داخلی آگ میں بھڑکتی ہوئی ۸۸:۴ بلانے جائیں گے سے ایک چشمے کے پانے کا ۸۸:۵ تھکے ہوئے نہیں

لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجُوهٌُ

ان کے لئے کوئی کھانا سوائے سے کانٹے دار درخت ۸۸:۶ نہ موٹا کرے اور نہ کام لے سے بھوک ۸۸:۷ کچھ چہرے

يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ

اس دن تروتازہ ہونگے ۸۸:۸ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے ۸۸:۹ میں جنت میں عالی مقام ۸۸:۱۰ نہ سنیں گے

فِيهَا الْغِيَّةُ ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَكْوَابٌ

اس میں کوئی لغو بات ۸۸:۱۱ اس میں چشمے ہوں گے بہت ۸۸:۱۲ اس میں تختیں بلند ۸۸:۱۳ اور پالے

مَوْضُوعَةٌ ۝ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزُرَابٌ مَبْثُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنْظُرُونَ

رکھے ہوئے ۸۸:۱۴ اور تکیے صف در صف ۸۸:۱۵ اور مسندیں بچھا کر رکھی ہوتیں ۸۸:۱۶ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے

إِلَى الْأَبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى

طرف اونٹ کی کس طرح پیدا کیا گیا ہے ۸۸:۱۷ اور طرف آسمان (کی طرف) کس طرح اونچا اتھایا گیا ہے ۸۸:۱۸ اور طرف

الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

پہاڑوں (کی طرف) کیسے گاڑھ دیئے گئے ہیں ۸۸:۱۹ اور طرف زمین (کی طرف) کس طرح بچھائی گئی ہے ۸۸:۲۰

فَذَكَرْنَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝

پس نصیحت کرتے رہو بیشک آپ نصیحت کرنے والے ہیں ۸۸:۲۱ نہیں آپ ان پر کوئی داروغہ ۸۸:۲۲

۲۳. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔

۲۴. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔

۲۵. پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی نہ ہوگا۔

۲۶. نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔

۲۷. اے اطمینان والی روح۔

۲۸. تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔

۲۹. پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔

۳۰. اور میری جنت میں چلی جا۔

سورة البلد

مکہ

سورة نمبر: ۹۰ آیات: ۲۰

۱. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔

۲. اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔

۳. اور (قسم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔

۴. یقیناً ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیا ہے۔

۵. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں۔

۶. کہتا (بہرتا) ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔

۷. کیا (یوں) سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔

۸. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں۔

۹. زبان اور دو ہونٹیں (نہیں) بنائے۔

۱۰. ہم نے دکھا دیئے اس کو دونوں راستے۔

۱۱. سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔

۱۲. اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟

۱۳. کسی گردن (غلام لونڈی) کو آزاد کرنا۔

۱۴. یا بھوکے کو کھانا کھلانا۔

۱۵. کسی رشتہ دار یتیم کو۔

۱۶. یا خاکسار مسکین کو۔

۱۷. پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔

۱۸. یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے (خوش بختی والے)۔

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى

اور لائی جائے گی اس دن جہنم اس دن یاد کرے گا انسان اور کہاں سے ہے

لَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ

اس کے نصیحت ۸۹:۲۳ کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لئے ۸۹:۲۴ تو اس دن

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيَّتُهَا

نہ عذاب دے گا عذاب اس کا کوئی ایک ۸۹:۲۵ اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک ۸۹:۲۶ اے

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

نفس مطمئنہ ۸۹:۲۷ واپس چلو طرف اپنے رب کی راضی ہو کر پسندیدہ ہو کر ۸۹:۲۸

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَاَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

بہر داخل ہو جاؤ میں میرے بندوں (میں) ۸۹:۲۹ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں ۸۹:۳۰

سُورَةُ الْبَلَدِ

۲۰

۹۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

نہیں میں قسم اس شہر کی ۹۰:۱ اور تو رہنے والا اس شہر میں ۹۰:۲ اور قسم ہے اس کی نے جنم دیا ہے

﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ

۹۰:۳ البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو میں محنت میں ۹۰:۴ کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں قادر ہوسکے گا اس پر تحقیق

أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ

کسی نے ۹۰:۵ وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں ۹۰:۶ کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا کسی ایک نے

﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ

۹۰:۷ کیا ہم نے بنائیں اس کے دو آنکھیں ۹۰:۸ اور ایک زبان اور دو ہونٹ ۹۰:۹ اور راہ دکھائی ہم نے اس کو

النَّجْدَيْنِ ﴿١٥﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

دوراستے ۹۰:۱۰ پس نہ گزرا وہ بہاڑی گھاٹی میں ۹۰:۱۱ اور کیا چیز بنائے تجھ کو ہے وہ دشوار گزار گھاٹی ۹۰:۱۲

فَكُرْبَةَ ﴿١٣﴾ أَوْ اطَّعْمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

آزاد کرنا ایک گردن کا ۹۰:۱۳ یا کھانا کھلانا میں ایک دن والے کو بھوک (والے کو) ۹۰:۱۴ کسی یتیم کو والے قریبی

﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَصَّوْا

۹۰:۱۵ یا کسی مسکین کو والا خاک نشین کو ۹۰:۱۶ پھر ہوگا وہ سے میں (بے) ان لوگوں جو ایمان لائے دوسرے کو تلقین کی اور انہوں نے ایک

بِالصَّبْرِ وَتَوَّصَّوْا بِالرِّحْمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

صبر کی اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحمت سے ۹۰:۱۷ یہی لوگ والے ہیں دائیں بازو (والے ہیں) ۹۰:۱۸

۱۹. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں۔
۲۰. انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔

سورة الشمس

مکہ
سورہ نمبر: ۹۱ آیات: ۱۵

۱. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔
۲. قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔
۳. قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔
۴. قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔
۵. قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔
۶. قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔
۷. قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔
۸. پھر سمجھ دی اسکو اس کی بدکاری کا اور تقویٰ کا۔
۹. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔
۱۰. اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوگا۔
۱۱. (قوم) ثمود نے اپنی سرکشی کی باعث جھٹلایا۔
۱۲. جب ان میں سے سب سے بڑا بد بخت کھڑا ہوا۔
۱۳. انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔
۱۴. ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔
۱۵. وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔

سورة الليل

مکہ
سورہ نمبر: ۹۲ آیات: ۲۱

۱. قسم ہے رات کی جب چھا جائے،
۲. اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔
۳. اور قسم ہے نر مادہ کو پیدا کرنے کا (طریقہ) کی۔
۴. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔
۵. جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب سے)۔
۶. اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔
۷. تو ہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔
۸. لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی۔
۹. اور نیک بات کو جھٹلایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْجَمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ وہ بے بس (والے بیس) ۹۰:۱۹ ان پر آگ ہے بند کی ہوئی ۹۰:۲۰

۱۵

سورة الشمس

۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا جَدَّهَا ۚ

قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی دھوپ کی ۹۱:۱ اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے ۹۱:۲ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو ظاہر کرے ۹۱:۳

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۚ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَنَهَا ۚ وَالْأَرْضِ ۚ

۹۱:۴ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر ۹۱:۵ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی اس کے بنانے کی ۹۱:۶ اور قسم ہے زمین کی

وَمَا طَوَّحَهَا ۚ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

اور اس کی اسے ہموار کرنے کی ۹۱:۷ اور قسم ہے نفس اور اس کی اسے درست بنانے کی ۹۱:۸ پس اس نے الہام کیا اس کو اور اس کی بدی کو

وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ

۹۱:۹ اور اس کے تقویٰ کو یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو اور یقیناً ناکام ہوا جس نے خاک بنایا اس کو

كذَّبتْ ثَمُودٌ بِطُغُوْنِهَا ۚ إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُمْ

۹۱:۱۰ جھٹلایا نمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ ۹۱:۱۱ جب اتھا سب سے بڑا بدبخت اس کا ان کو

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۚ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ

رسول نے اللہ کے اونٹ کی حفاظت کرو اللہ کی اور اس کے پینے کو ۹۱:۱۲ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو بہر کاٹ ڈالا اس کو تو ہلاکت ڈالی

عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّيْنَاهَا ۚ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۚ

ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے ساتھ ۹۱:۱۳ اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے ۹۱:۱۴

۲۱

سورة الليل

۹۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ۹۲:۱ اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو ۹۲:۲ اور اس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو ۹۲:۳

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۚ

بیشک تمہاری کوشش الٹے مختلف ۹۲:۴ تو رہا وہ جس نے دیا اور تقویٰ کیا ۹۲:۵ اور تصدیق کی بہلائی کی ۹۲:۶

فَسَيَسِّرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ ۚ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۚ

پس عنقریب ہم آسانی دین کے اس کو ۹۲:۷ اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی ۹۲:۸ اور جھٹلایا نیکی کو ۹۲:۹

۱۰. تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا راستہ میسر کر دیں گے۔
۱۱. اس کا مال اسے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ گر (مر) جاتا ہے۔
۱۲. بیشک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔
۱۳. اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔
۱۴. میں نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔
۱۵. جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا۔
۱۶. جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیر لیا۔
۱۷. اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔
۱۸. جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال دیتا ہے۔

۱۹. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔
۲۰. بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لئے۔
۲۱. یقیناً وہ (اللہ بھی) عنقریب رضامند ہو جائے گا۔

سورة الضحیٰ

مکہ
سورہ نمبر: ۹۳ آیات: ۱۱

۱. قسم ہے چاشت کے وقت کی۔
۲. اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔
۳. نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔
۴. یقیناً تیرے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہوگا۔
۵. تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔
۶. کیا اس نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی۔
۷. اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔
۸. اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔
۹. پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔
۱۰. اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔
۱۱. اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔

سورة الشرح

مکہ
سورہ نمبر: ۹۴ آیات: ۸

۱. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔
۲. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔

فَسَنِّيْسِرُهُۥ وَلِلْعَسْرِ ۝ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝

پس عنقریب ہم آسانی دے دیں گے اس کو۔ تنگی کے لئے ۹۲:۱۰ اور نہیں آئے گا کسی کام اس کو اس کا مال جب وہ بلاک ہو ۹۲:۱۱ بیشک ہمارے ذمہ ہے

لَلْهُدَىٰ ۝ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝

البتہ ہدایت ہے ۹۲:۱۲ اور بیشک ہمارے لئے ہے ۹۲:۱۳ اور دنیا اور آخرت ۹۲:۱۴ تو خبردار کیا میں نے تم کو ۹۲:۱۵ ایک آگ سے جو بہتر کی ہے ۹۲:۱۶

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَسَيُجَنَّبُهَا ۝

نہ داخل ہوگا مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ۹۲:۱۶ اور عنقریب بچالیا جائے گا اس سے ۹۲:۱۷

الَّتِي ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ۝

سب سے زیادہ ۹۲:۱۷ وہ جو دیتا ہے مال اپنا پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے ۹۲:۱۸ اور نہیں کسی ایک اس کے پاس سے نعمت میں پرہیزگار ۹۲:۱۹

تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝

جس کا بدلہ دیا جائے ۹۲:۱۹ سوائے تلاش کرنے کو وجہ اپنے رب کا جو بلند و بالا ہے ۹۲:۲۰ اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا ۹۲:۲۱

۱۱

سورة الضحیٰ

۹۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

قسم ہے روز روشن کی ۹۲:۱ اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے ۹۲:۲ نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا ۹۲:۳

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ۝

اور البتہ آخرت بہتر ہے تیرے سے دنیا سے ۹۲:۴ اور البتہ عنقریب عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب ۹۲:۵

فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

تو نوازی ہو جائے گا ۹۲:۵ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم ۹۲:۶ پھر اس نے ٹھکانہ اور پایا تجھ کو راہ بھولا ۹۲:۷ تو اس نے ہدایت بخشی ۹۲:۸

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

۹۲:۷ اور پایا تجھ کو مفلس ۹۲:۸ غنی کر دیا تو اس نے ۹۲:۹ تورا یتیم پس نہ سختی کر ۹۲:۱۰

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اور پایا ۹۲:۱۱ سوائے پس نہ جھڑکو ۹۲:۱۰ اور رہی نعمت ۹۲:۱۱ اپنے رب کی پس بیان کرو ۹۲:۱۲

۸

سورة الشرح

۹۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝

کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لئے سینہ تیرا ۹۴:۱ اور اٹھالیا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا ۹۴:۲

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

وہ جس نے توڑ دی تھی تیری کمر اور بلند کیا ہم نے تجھے تیرا ذکر ۹۴:۳ پس یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے ۹۴:۵

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝

بیشک ساتھ تنگی کے آسانی ہے ۹۴:۶ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو ۹۴:۷ اور طرف اپنے رب کی پس راغب ہو جاؤ ۹۴:۸

سُورَةُ التِّينِ

۸

۹۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

قسم ہے تین (انجیر) کی اور زیتون کی ۹۵:۱ اور طور کی سینا ۹۵:۲ اور قسم شہر کی جو پر امن ہے ۹۵:۳

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو میں بہترین ساخت پر ۹۵:۴ پھر تے اس کو پھر دیا ہم سب سے زیادہ نچلا نچلوں میں سے تحقیق

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

۹۵:۵ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے تو ان کے لئے اجر ہے نہ ختم ہونے والا ۹۵:۶

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝

تو کون جھٹلائے گا تجھ کو بعد جزا سزا کے ۹۵:۷ کیا نہیں ہے اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ۹۵:۸

سُورَةُ الْعَلَقِ

۱۹

۹۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ ۝

پڑھو ساتھ نام کے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا ۹۶:۱ پیدا کی انسان کو سے جمع ہونے ۹۶:۲ پڑھو

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ ۝

اور رب تیرا بڑا کریم ہے ۹۶:۳ وہ جس نے سکھایا ساتھ قلم کے ۹۶:۴ سکھایا انسان کو

مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْغَىٰ ۝ أَن رَّاهُ اسْتَعْجَىٰ ۝

وہ جو نہیں وہ جانتا تھا ۹۶:۵ ہرگز نہیں بیشک انسان کہ ۹۶:۶ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز ہو گیا ہے

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجُعَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا ۝

بیشک طرف تیرے رب کی بلنتا ہے ۹۶:۸ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ۹۶:۹ ایک بندے کو

إِذَا صَلَّىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝

جب وہ نماز پڑھتا ہے ۹۶:۱۰ کیا دیکھا تم نے اگر ہووہ ہر ہدایت (بر) یا حکم دیا ۹۶:۱۱ تقویٰ کا ۹۶:۱۲

۳. جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔
۴. ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔
۵. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
۶. بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
۷. پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔

۸. اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا

سورة التين

مکہ
سورة نمبر: ۹۵ آیات: ۸

۱. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔
۲. اور طور سینین کی۔
۳. اور اس امن والے شہر کی۔
۴. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔
۵. پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔
۶. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کئے تو ان کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔
۷. پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔
۸. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔

سورة العلق

مکہ
سورة نمبر: ۹۶ آیات: ۱۹

۱. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
۲. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔
۳. تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔
۴. جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔
۵. جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
۶. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
۷. اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ (یا تونگر) سمجھتا ہے۔
۸. یقیناً تیرے رب کی طرف واپسی ہے۔
۹. (بھلا) اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔
۱۰. جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔
۱۱. بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔
۱۲. یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔

۱۳. بہلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو۔

۱۴. کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔

۱۵. یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔

۱۶. ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔

۱۷. یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔

۱۸. ہم بھی (دوزخ کے) پیادوں کو بلا لیں گے۔

۱۹. خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔

سورة القدر

مکہ

سورة نمبر: ۹۷ آیات: ۵

۱. یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا۔

۲. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟

۳. شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

۴. اس میں (ہر کام) کے سر انجام دینے کو

اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح (جبرائیل

علیہ السلام) اترتے ہیں۔

۵. یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع

ہونے تک رہتی ہے۔

سورة البینة

مدینہ

سورة نمبر: ۹۸ آیات: ۸

۱. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب

تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز

رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل یہ تھی کہ)

۲. اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک آسمانی

کتاب پڑھے۔

۳. جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔

۴. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے

بعد ہی (اختلاف میں پڑ کر) متفرق ہو گئے۔

۵. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا

گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے

لئے دین کو خالص رکھیں۔ یکسو ہو کر اور

نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں یہی ہے

درست دین۔

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۗ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۚ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ

کیا غور کیا تم نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا ۹۲:۱۳ نہیں کیا وہ جانتا کہ بیشک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ۹۲:۱۴ ہرگز البتہ اگر نہ وہ باز آیا

لَنْسَفَعًا بِالْأَنفِصَةِ ۗ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۗ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۗ

البتہ ہم ضرور کھینچیں گے ۹۲:۱۵ پیشانی کو ۹۲:۱۵ پیشانی جھوٹی ۹۲:۱۶ خطا کار ۹۲:۱۶ پس جاہلے کہ پکارے نواؤں کو ۹۲:۱۷

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ۗ كَلَّا لَا تَطْعَهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۗ

عقرب ہم ۹۲:۱۸ فرشتوں کو ۹۲:۱۸ ہرگز نہیں نہ تم اطاعت کرو اس کی ۹۲:۱۹ اور سجدہ کرو اور قریب ہوجاؤ

سُورَةُ الْقَدْرِ

۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ

بیشک نازل کیا ہم میں رات قدر کی ۹۲:۱ اور کیا جیز ۹۲:۱ بنائے تجھ کو کیا ہے؟ رات قدر کی ۹۲:۲

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۗ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا

رات قدر کی بہتر ہے سے ہزار مہینوں (سے) ۹۲:۳ اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اس میں

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۗ

ان کے ساتھ اپنے رب کے سے ہر حکم (سے) ۹۲:۴ سرسرسلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہوجائے فجر ۹۲:۵

سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ

نہیں تھے وہ لوگ کفر کیا سے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے ۹۸:۱ باز آنے والے یہاں تک کہ

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۗ فِيهَا كُتُبٌ

آجائے ان کے پاس واضح دلیل ۹۸:۱ ایک رسول سے اللہ کی طرف جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ ۹۸:۲ اس میں احکام ہیں

قِيَمَةٌ ۗ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

درست ۹۸:۳ اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیئے گئے کتاب مگر بعد اس کے جو آئی ان کے پاس

الْبَيِّنَةُ ۗ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

واضح بیان ۹۸:۴ اور نہیں حکم دیئے مگر یہ کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

یکسو ہو کر اور وہ قائم کرتے نماز اور ادا کرتے زکوٰۃ اور یہ ہے دین درست ۹۸:۵

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے میں آگ میں جہنم کی

خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

ہمیشہ رہنے والے اس میں یہی لوگ وہ بدترین مخلوق ہیں ۹۸:۶ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُ هُمْ

اور انہوں نے عمل کئے اچھے یہی لوگ وہ بہترین مخلوق ہیں ۹۸:۷ ان کی جزا

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

پاس ان کے رب کے باغات ہمیشگی کے بہتی ہیں سے ان کے نیچے سے نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں

فِيهَا أَبْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

اس میں ہمیشہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے یہ واسطے اس ذرتا ہو اپنے رب سے ۹۸:۸

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

۸

۹۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ

جب بلاماری جائے گی زمین بلادیا جانا اس کا ۹۹:۱ اور نکالے گی زمین بوجھ اپنے ۹۹:۲ اور کہے گا

الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۖ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

انسان کیا ہے اس کو ۹۹:۳ اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں ۹۹:۴ کیونکہ تیرے رب نے وحی کی اس کو

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ

۹۹:۵ اس دن نکلیں گے لوگ مختلف جماعتیں تاکہ وہ دیکھے جائیں اپنے اعمال ۹۹:۶ توجو کوئی عمل کرے

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

برابر ذرے کے بھلائی کا لے گا وہ دیکھے ۹۹:۷ اور جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے کے برائی کا وہ دیکھے لے گا اس کو ۹۹:۸

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

۱۱

۱۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۖ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۖ فَالْمُغِيرَاتِ

قسم بے دوڑنے والیوں کی بانپ کر ۱۰۰:۱ پھر قسم بے آگ نکالنے والیوں کی جھاز کر ۱۰۰:۲ پھر قسم بے جہابہ مارنے والیوں کی

ضَبْحًا ۖ فَالْأَثْرَانِ بَهْ نَقْعًا ۖ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۗ

صبح کے وقت ۱۰۰:۳ پھر اڑتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو ۱۰۰:۴ پھر گھس جلتے ہیں اس کے ساتھ جماعت میں ۱۰۰:۵

۶. بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔

۷. بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔

۸. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ اس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔

سورة الزلزلة

مدینہ
سورة نمبر: ۹۹ آیات: ۸

۱. جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔

۲. اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔

۳. انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔

۴. اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔

۵. اس لئے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔

۶. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں۔

۷. پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

۸. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

سورة العاديات

مکہ
سورة نمبر: ۱۰۰ آیات: ۱۱

۱. بانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔

۲. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔

۳. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔

۴. پس اس وقت گرد و غبار اڑتے ہیں۔

۵. پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔

۶. یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
 ۷. اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔
 ۸. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔
 ۹. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کچھ) بے نکال لیا جائے گا۔
 ۱۰. اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔
 ۱۱. بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔

سورة القارعة
 مکہ
 سورہ نمبر: ۱۰۱ آیات: ۱۱

۱. کھڑ کھڑا دینے والی
 ۲. کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔
 ۳. تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے۔
 ۴. جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔
 ۵. اور پہاڑ دھننے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔
 ۶. پھر جس کے پلڑے بھاری ہونگے۔
 ۷. وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔
 ۸. جن کے پلڑے ہلکے ہونگے۔
 ۹. اس کا ٹھکانا باویہ (جہنم) ہے۔
 ۱۰. تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟
 ۱۱. وہ تند تیز آگ ہے۔

سورة التكاثر
 مکہ
 سورہ نمبر: ۱۰۲ آیات: ۸

۱. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔
 ۲. یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔
 ۳. ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے۔
 ۴. ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔
 ۵. ہرگز نہیں ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جانتے ہوتے۔
 ۶. تو بیشک تم جہنم دیکھ لو گے۔
 ۷. اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔
 ۸. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ وَلِحَبِّ

یقیناً انسان اپنے رب کے لئے ناشکرا ہے ۱۰۰:۶ اور بیشک وہ اوپر اس کے البتہ گواہ ہے ۱۰۰:۷ اور بیشک وہ محبت میں

الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾

مال کی البتہ سخت ہے ۱۰۰:۸ کیا بھلا وہ جاننا جب نکالا جائے گا جو میں قبروں میں ہے ۱۰۰:۹

وَحَصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ ذَٰلِكَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

اور ظاہر کر دیا جائے گا جو میں سینوں میں ہے ۱۰۰:۱۰ بیشک رب ان کا ان کے بارے میں اس دن البتہ باخبر ہے ۱۰۰:۱۱

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

۱۱

۱۰۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ

عظیم حادثہ ۱۰۱:۱ کیا ہے ۱۰۱:۲ وہ عظیم حادثہ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ کھڑ کھڑانے والی ۱۰۱:۳ جس دن

يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

ہوں گے لوگ تندیوں کی طرح بکھرے ہوئے ۱۰۱:۴ اور ہوں گے پہاڑیں

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي

رنگین روئی کی طرح جو دھنی ہوئی ہو ۱۰۱:۵ تو رہا وہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے ۱۰۱:۶ تو وہ میں

عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾

زندگی میں ہوگا پسندیدہ ۱۰۱:۷ اور رہا وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ۱۰۱:۸ ح پس اس کا ٹھکانہ (جہنم) باویہ ہوگی

﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾

۱۰۱:۹ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ ۱۰۱:۱۰ آگ ہے بھڑکتی ہوئی ۱۰۱:۱۱

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

۸

۱۰۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ

غافل کنے ایک دوسرے سے ۱۰۲:۱ یہاں تک کہ زاریت کرلی تم نے ۱۰۲:۲ ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے ۱۰۲:۳ پھر رکھا تم کو بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾

ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے ۱۰۲:۴ ہرگز نہیں کاش تم جانتے ہوئے ۱۰۲:۵ یقین کا البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ۱۰۲:۶

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَ ذَٰلِكَ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

پھر دیکھو گے اس کو البتہ تم ضرور یقین کی ۱۰۲:۷ پھر البتہ تم ضرور پوچھ جاؤ گے نعمتوں کے ۱۰۲:۸

سورة العصر
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۳ آیات: ۳

۱۔ زمانے کی قسم۔

۲۔ بیشک (بالیقین) انسان سراسر نقصان میں ہے۔

۳۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور نیک عمل کئے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

سورة الحجر
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۴ آیات: ۹

۱۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو۔

۲۔ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔
۳۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے گا

۴۔ ہرگز نہیں یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

۵۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔

۶۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔

۷۔ جو دلوں پر چڑھتے چلی جائے گی۔

۸۔ بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔

۹۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔

سورة الفیل
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۵ آیات: ۵

۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟

۲۔ کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا۔

۳۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیئے۔

۴۔ جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔

۵۔ پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح

کر دیا۔

سُورَةُ الْعَصْرِ

۳

۱۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

قسم ہے زماع کی ۱:۲۱ بیشک تمام انسان البتہ میں نقصان میں ہیں ۲:۲ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

اور انہوں نے اے کام کئے اچھے اور ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی اور ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی ۳:۳

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

۹

۱۰۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَا لَمْ يَجْعُدْهُ ۲

بلاکت ہے واسطے ہر اس جو منہ پر عیب پینہ پیچھے ۱:۱ وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گنی کر ۲:۲ رکھا اس کو

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَتِ فِي الْحُطَمَةِ ۴

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے گا ۳:۳ ہرگز نہیں البتہ ضرور ڈالا جائے گا میں ۴:۴ حطمہ (میں)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۶ الَّتِي تَطَّلِعُ

اور کیا چیز بنائے تجھ کو کیا ہے حطمہ ۵:۵ آگ اللہ کی سلگائی ہوئی وہ جو جڑھاتی ہے ۶:۶

عَلَى الْأَفئِدَةِ ۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۹

پر دلوں (پر) ۷:۷ بیشک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے ۸:۸ میں ستونوں (میں) لمبے لمبے ۹:۹

سُورَةُ الْفَيْلِ

۵

۱۰۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ ۱ أَلَمْ يَجْعَلْ

کیا نہیں دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ ۱:۱ کیا نہیں کر دیا

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۳

ان کی جال کو میں گمراہی میں (اکارت) ۲:۲ اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ۳:۳

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۵

پھینکتے تھے ان پر پتھر کے کنکری کی قسم کے ۴:۴ تو کر دیا ان کو بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا ہو ۵:۵

سورة القريش
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۶ آیات: ۴

۱. قریش کے مانوس کرنے کے لئے
۲. یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے۔
۳. پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔
۴. جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر (اور خوف) میں امن و امان دیا۔

سورة الماعون
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۷ آیات: ۷

۱. کیا تو نے دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے۔
۲. یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
۳. اور مسکین کو کھلانے کے لئے ترغیب نہیں دیتا۔
۴. ان نمازیوں کے لئے افسوس (اور ویل نامی جہنم کی جگہ) ہے۔
۵. جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔
۶. جو ریاکاری کرتے ہیں۔
۷. اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔

سورة الكوثر
مکہ
سورہ نمبر: ۱۰۸ آیات: ۳

۱. یقیناً ہم نے تجھے (حوض) کوثر (اور بہت کچھ) دیا ہے۔
۲. پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر۔
۳. یقیناً تیرا دشمن ہی لا وارث اور بے نام و نشان ہے۔

سُورَةُ الْقُرَيْشِ

۴

۱۰۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝۱ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

مانوس کرنے کے لئے قریش کو ۱۰:۶۱ مانوس کرنا ان کو سفر میں سردی کے اور گرمی کے

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝۲ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ

۱۰:۶۲ پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے ۱۰:۶۳ جس نے کھلایا ان کو

مِّنْ جُوعٍ ۝۳ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝۴

۱۰:۶۴ سے بھوک (سے) اور امن دیا ان کو سے خوف (سے) ۱۰:۶۴

سُورَةُ الْمَاعُونِ

۷

۱۰۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ ۝۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے ۱۰:۷۱ جزا و سزا کو ۱۰:۷۱ پس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے

الْيَتِيمَ ۝۲ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝۳ فَوَيْلٌ

۱۰:۷۲ یتیم کو اور نہیں رغبت دلاتا بر کھانے پر ۱۰:۷۳ مسکین کے ۱۰:۷۳ پس بلاکت ہے

لِلْمُصَلِّينَ ۝۴ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

نمازیوں کے لئے ۱۰:۷۴ وہ لوگ وہ سے اپنی نمازوں (سے) ۱۰:۷۴ بے خبر ہیں

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝۵ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝۷

۱۰:۷۵ وہ لوگ وہ دکھاوا کرتے ہیں ۱۰:۷۶ اور روکتے ہیں ۱۰:۷۷ برتنے کی چھوٹی سی چیز کو بھی

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

۳

۱۰۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝۲

۱۰:۸۲ بیشک ہم نے عطا کی ہم نے آپ کو ۱۰:۸۱ خیر کثیر (حوض کوثر) ۱۰:۸۱ پس نماز پڑھو اپنے رب کے لئے اور قربانی کرو ۱۰:۸۲

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝۳

۱۰:۸۳ بیشک دشمن تیرا وہی جز کتا ہے ۱۰:۸۳

سورة الكافرون
مکہ
سورة نمبر: ۱۰۹ آیات: ۶

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

۶

۱۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

کہہ دیجئے اے کافرو ۱:۱۰۹ نہیں میں عبادت کرتا جس کی عبادت کرتے ہو ۱:۱۰۹

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾

اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتے ہو ۱:۱۰۹ اور نہ میں عبادت کرنے والوں کی عبادت کرتے ہوں ۱:۱۰۹

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت کرتے ہو ۱:۱۰۹ تمہارا دین ہے اور میرا دین ہے ۱:۱۰۹

سُورَةُ النَّصْرِ

۳

۱۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب آگئی مدد اللہ کی اور فتح ۱۱۰:۱ اور تم نے دیکھا لوگوں کو

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

داخل ہو رہے ہیں میں دین (میں) اللہ کے فوج در فوج ۱۱۰:۲ تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی

وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

اور بخشش مانگو اس سے بیشک وہ ہے اور توبہ قبول کرنے والا ۱۱۰:۳

سُورَةُ الْمَسَدِ

۵

۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ بلاک ہوا ۱۱۱:۱ نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا ۱۱۱:۲

سَيَصِلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں والی شعلے (والی) ۱۱۱:۳ اور اس کی بیوی اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو ۱۱۱:۴

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

میں اس کی گردن میں ہوگی رسی کی مونیچہ کی ۱۱۱:۵

سورة النصر
مدینہ
سورة نمبر: ۱۱۰ آیات: ۳

۱. جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے۔

۲. اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے۔

۳. تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

سورة المسد
مکہ
سورة نمبر: ۱۱۱ آیات: ۵

۱. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔

۲. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔

۳. وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔

۴. اور اس کی بیوی بھی (جائے گی) جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔

۵. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

سورة الاخلاص
مکہ
سورہ نمبر: ۱۱۲ آیات: ۴

۱. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے
۲. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔
۳. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
۴. اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

سورة الفلق
مکہ
سورہ نمبر: ۱۱۳ آیات: ۵

۱. آپ کہہ دیجئے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں
۲. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔
۳. اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔
۴. اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شر سے (بھی)
۵. اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔

سورة الناس
مکہ
سورہ نمبر: ۱۱۴ آیات: ۶

۱. آپ کہہ دیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔
۲. لوگوں کے مالک کی۔
۳. لوگوں کے معبود کی (پناہ میں)۔
۴. وسوسہ ڈالکر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔
۵. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔
۶. (خواہ) وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳

کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے ۱۱۲:۱ اللہ ہے ۱۱۲:۲ نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا ۱۱۲:۳

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُكُوفًا اَحَدٌ ۝۴

اور نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی ایک بھی ۱۱۲:۴

سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ

کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب کی صبح کے ۱۱۲:۱ سے شر ہر اس جو اس نے پیدا کی اور سے شر

غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴

اندھیرا کرنے والی کے جب وہ داخل ہو جائے ۱۱۲:۳ اور سے شر پھونکنے والیوں کے میں گریبوں (میں) ۱۱۲:۴

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

اور سے شر حاسد کے جب وہ حسد کرے ۱۱۲:۵

سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ

کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب کی انسانوں کے ۱۱۴:۱ بادشاہ انسانوں کے ۱۱۴:۲ الہ کی

النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِیِّسِ ۝۴ الَّذِی

انسانوں کے ۱۱۴:۳ سے شر وسوسہ پیچھے ہٹ جانے والا ۱۱۴:۴ وہ جو

یُوسِّسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵

وسوسہ ڈالتا ہے میں سینوں میں انسانوں کے ۱۱۴:۵

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

سے جنوں میں اور انسانوں میں ۱۱۴:۶

Sura	Name of Sura	Page	Sura	Name of Sura	Page
1	Al-Fatihah [The Opening] 7 Verses, Makkiyyah	1	30	Ar-Rum [The Romans] 60 Verses, Makkiyyah	404
2	Al-Baqarah [The Cow] 286 Verses, Madaniyyah	2	31	Luqman [Luqman] 34 Verses, Makkiyyah	411
3	Al-Imran [The Family of 'Imran] 200 Verses, Madaniyyah	50	32	As-Sajdah [The Prostration] 30 Verses, Makkiyyah	415
4	An-Nisa [The Women] 176 Verses, Madaniyyah	77	33	Al-Ahzab [The Confederates] 73 Verses, Madaniyyah	418
5	Al-Ma'idah [The Table Spread] 120 Verses, Madaniyyah	106	34	As-Saba' [Saba] 54 Verses, Makkiyyah	428
6	Al-An'am [The Cattle] 165 Verses, Makkiyyah	128	35	Al-Fatir [The Originator of Creation] 45 Verses, Makkiyyah	434
7	Al-A'raf [The Heights] 206 Verses, Makkiyyah	151	36	Ya'sin [Ya'sin] 83 Verses, Makkiyyah	440
8	Al-Anfal [The Spoils of War] 75 Verses, Madaniyyah	177	37	As-Saffat [Those Who Set The Ranks] 182 Verses, Makkiyyah	446
9	At-Tawbah [The Repentance] 129 Verses, Madaniyyah	187	38	Sa'd [Sa'd] 88 Verses, Makkiyyah	453
10	Yunus [(Prophet) Yunus] 109 Verses, Makkiyyah	208	39	Az-Zumar [The Groups] 75 Verses, Makkiyyah	458
11	Hud [(Prophet) Hud] 123 Verses, Makkiyyah	221	40	Al-Mu'min [The Forgiver] 85 Verses, Makkiyyah	467
12	Yusuf [(Prophet) Yusuf] 111 Verses, Makkiyyah	235	41	Fussilat [Explained in Detail] 54 Verses, Makkiyyah	477
13	Ar-Ra'ad [The Thunder] 43 Verses, Madaniyyah	249	42	Ash-Shura [The Consultation] 53 Verses, Makkiyyah	483
14	Ibrahim [(Prophet) Ibrahim] 52 Verses, Makkiyyah	255	43	Az-Zukhruf [The Gold Adornments] 89 Verses, Makkiyyah	489
15	Al-Hijr [The Rocky Tract] 99 Verses, Makkiyyah	262	44	Ad-Dukhan [the Smoke] 59 Verses, Makkiyyah	496
16	An-Nahl [The Bee] 128 Verses, Makkiyyah	267	45	Al-Jathiyah [The Kneeling] 37 Verses, Makkiyyah	499
17	Al-Isra' [The Night Journey] 111 Verses, Makkiyyah	282	46	Al-Ahqaf [The Winding Sand- Tracts] 35 Verses, Makkiyyah	502
18	Al-Kahf [The Cave] 110 Verses, Makkiyyah	293	47	Muhammad [(Prophet) Muhammad] 38 Verses, Madaniyyah	507
19	Maryam [Maryam] 98 Verses, Makkiyyah	305	48	Al-Fath [The Victory] 29 Verses, Madaniyyah	511
20	Taha [Ta-ha] 135 Verses, Makkiyyah	312	49	Al-Hujraat [The Private Apartments] 18 Verses, Madaniyyah	515
21	Al-Anbiya [The Prophets] 112 Verses, Makkiyyah	322	50	Qaaf [Q'af] 45 Verses, Makkiyyah	518
22	Al-Hajj [The Pilgrimage] 78 Verses, Madaniyyah	332	51	Al-Dhariyaat [The Wind That Scatters] 60 Verses, Makkiyyah	520
23	Al-Mu'minun [The Believers] 118 Verses, Makkiyyah	342	52	At-Tur [Mount Sinai] 49 Verses, Makkiyyah	523
24	An-Nur [The light] 64 Verses, Madaniyyah	350	53	An-Najm [The Star] 62 Verses, Makkiyyah	526
25	Al-Furqan [The Criterion] 77 Verses, Makkiyyah	359	54	Al-Qamar [The Moon] 55 Verses, Makkiyyah	528
26	Ash-Shu'ara [The Poets] 227 Verses, Makkiyyah	367	55	Ar-Rahman [The Most Gracious] 78 Verses, Madaniyyah	531
27	An-Naml [The Ant] 93 Verses, Makkiyyah	377	56	Al-Waqi'ah [The Inevitable Event] 96 Verses, Makkiyyah	534
28	Al-Qasas [The Narrations] 88 Verses, Makkiyyah	385	57	Al-Hadid [The Iron] 29 Verses, Madaniyyah	537
29	Al-'Ankabut [The Spider] 69 Verses, Makkiyyah	396	58	Al-Mujadila [The Pleading Woman] 22 Verses, Madaniyyah	542

Sura	Name of Sura	Page	Sura	Name of Sura	Page
59	Al-Hashr [The Banishment] 24 Verses, Madaniyyah	المُهَيَّبَاتِ 545	87	Al-A'la [The Most High] 19 Verses, Makkiyyah	الْأَعْلَى 591
60	Al-Mumtahana [The Woman to be Examined] 13 Verses, Madaniyyah	الْمُتَحَنَّنَاتِ 549	88	Al-Ghashiyah [The Overwhelming] 26 Verses, Makkiyyah	الْغَاشِيَةِ 592
61	As-Saff [The Battle Array] 14 Verses, Madaniyyah	الضُّفُوفِ 551	89	Al-Fajr [The Dawn] 30 Verses, Makkiyyah	الْفَجْرِ 593
62	Al-Jumu'ah [The Congregation (Friday)] 11 Verses, Madaniyyah	الْجُمُعَاتِ 553	90	Al-Balad [The City] 20 Verses, Makkiyyah	الْبَلَدِ 594
63	Al-Munafiqun [The Hypocrites] 11 Verses, Madaniyyah	الْمُنَافِقِينَ 554	91	Ash-Shams [The Sun] 15 Verses, Makkiyyah	الشَّمْسِ 595
64	At-Taghabun [Mutual Disillusion] 18 Verses, Madaniyyah	التَّحَابُوتِ 556	92	Al-Lail [The Night] 21 Verses, Makkiyyah	اللَّيْلِ 595
65	At-Talaq [Divorce] 12 Verses, Madaniyyah	الطَّلَاقِ 558	93	Ad-Du ha [The Forenoon] 11 Verses, Makkiyyah	الذُّحَى 596
66	At-Tahrim [The Prohibition] 12 Verses, Madaniyyah	التَّحْرِيمِ 560	94	Al-Inshirah [The Expansion] 8 Verses, Makkiyyah	الْإِشْرَاحِ 596
67	Al-Mulk [The Dominion] 30 Verses, Makkiyyah	الْمُلْكِ 562	95	At-T'in [The Fig] 8 Verses, Makkiyyah	التِّينِ 597
68	Al-Qalam [The Pen] 52 Verses, Makkiyyah	الْقَلَمِ 564	96	Al-Alaq [The Clot] 19 Verses, Makkiyyah	الْعَلَقِ 597
69	Al-Haqqah [The Sure Reality] 52 Verses, Makkiyyah	الْحَقَّقَاتِ 566	97	Al-Qadr [The Night of Decree] 5 Verses, Makkiyyah	الْقَدْرِ 598
70	Al-Maarij [The Ways of Ascent] 44 Verses, Makkiyyah	الْمَعَارِجِ 568	98	Al-Bayyinah [The Clear Evidence] 8 Verses, Madaniyyah	الْبَيِّنَاتِ 598
71	Nuh [(Prophet) Nuh] 28 Verses, Makkiyyah	نُوحٍ 570	99	Al-Zalzalah [The Earthquake] 8 Verses, Madaniyyah	الزَّلْزَلَةِ 599
72	Al-Jinn [The Jinn] 28 Verses, Makkiyyah	الْجِنِّ 572	100	Al-Adiyat [Those That Run] 11 Verses, Makkiyyah	الْعَادِيَاتِ 599
73	Al-Muzzammil [Folded in Garments] 20 Verses, Makkiyyah	الْمُزَّمِّلِ 574	101	Al-Qariah [The Great Calamity] 11 Verses, Makkiyyah	الْقَارِعَاتِ 600
74	Al-Muddathir [The One Wrapped Up] 56 Verses, Makkiyyah	الْمُدَّثِّرِ 575	102	At-Takathur [The Piling Up] 8 Verses, Makkiyyah	التَّكْوِينِ 600
75	Al-Qiyamah [The Resurrection] 40 Verses, Makkiyyah	الْقِيَامَةِ 577	103	Al-Asr [The Time] 3 Verses, Makkiyyah	الْعَصْرِ 601
76	Al-Insan [The Man] 31 Verses, Madaniyyah	الْإِنشَاءِ 578	104	Al-Humazah [The Scandal- Monger] 9 Verses, Makkiyyah	الْهُمَزَةِ 601
77	Al-Mursalat [Those Sent Forth] 50 Verses, Makkiyyah	الْمُرْسَلَاتِ 580	105	Al-fil [The Elephant] 5 Verses, Makkiyyah	الْفِيلِ 601
78	An-Naba' [The Great News] 40 Verses, Makkiyyah	النَّبَأِ 582	106	Quraish [The Quraysh] 4 Verses, Makkiyyah	قُرَيْشٍ 602
79	An-Nazi'at [Those Who Tear Out] 46 Verses, Makkiyyah	النَّازِعَاتِ 583	107	Al-Ma'un [The Neighbourly Assistance] 7 Verses, Makkiyyah	الْمَاعُونِ 602
80	'Abasa [(He) Frowned] 42 Verses, Makkiyyah	عَبَسَ 585	108	Al-Kauthar [Abundance] 3 Verses, Makkiyyah	الْكَوْثَرِ 602
81	At-Takwir [The Folding Up] 29 Verses, Makkiyyah	التَّكْوِينِ 586	109	Al-Kafirun [The Disbelievers] 6 Verses, Makkiyyah	الْكَافِرُونَ 603
82	Al-Infitar [The Cleaving] 19 Verses, Makkiyyah	الْإِنْفِطَارِ 587	110	An-Nasr [The Help] 3 Verses, Madaniyyah	النَّصْرِ 603
83	Al-Mutaffifin [The Dealers in Fraud] 36 Verses, Makkiyyah	الْمُطَفِّفِينَ 587	111	Al-Masad [The Palm Rope] 5 Verses, Makkiyyah	الْمَسَدِ 603
84	Al-Inshiqaq [The Rending Asunder] 25 Verses, Makkiyyah	الْإِنْشِقَاقِ 589	112	Al-Ikhlâs [Purity of Faith] 4 Verses, Makkiyyah	الْإِكْلَافِ 604
85	Al-Buruj [The Mansion of the Stars] 22 Verses, Makkiyyah	الْبُرُوجِ 590	113	Al-Falaq [The Day Break] 5 Verses, Makkiyyah	الْفَلَقِ 604
86	At-Tariq [The Night-Visitant] 17 Verses, Makkiyyah	الطَّارِقِ 591	114	An-Nas [The Mankind] 6 Verses, Makkiyyah	النَّاسِ 604